

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

6 نومبر 2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے نینو سائنس کے دو محققین وزیر اعظم ریسرچ فیلوشپ (پی ایم آر ایف) کے لئے منتخب

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ اس کے دو ریسرچ اسکالرز محترمہ ماریہ خان اور محترمہ آبگینہ شبیر ، سینئر فار نینو سائنس اینڈ نینو ٹکنالوجی (سی این این) مئی 2020 ڈرائیو کے لیٹرل انٹری زمرے کے تحت وزیر اعظم ریسرچ فیلوشپ (پی ایم آر ایف) کے لئے منتخب ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر اورنگزیب خرم حافظ ، سینئر برائے نینو سائنس اینڈ نینو ٹکنالوجی کے آفیشل ڈائریکٹر نے بتایا کہ پی ایم آر ایف کے ایک حصے کے طور پر دونوں محققین کو پہلے دو سالوں میں 000 ، 70 روپے ، تیسرے سال کے لئے 75,000 روپے ، چوتھے سال 80,000 روپے کی فیلوشپ مل جائے گی۔ اور پانچویں سال کے لئے بھی 80,000 روپے ملیں گے ، یعنی ہر فیلو کو دو لاکھ روپے سالانہ (جس کی مالیت پانچ سال میں تقریباً 10 لاکھ روپے) بنتی ہے ملیں گے ۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے دونوں محققین کو مبارکباد پیش کی اور امیدجائی کہ اس سے یونیورسٹی کے دیگر طلبا بھی تحقیق میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ عمدہ مقام کا حامل ہے اور اپنے طالب علموں کو اعلیٰ بلندی کے حصول کے لئے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پوری کوشش کر تی ہے۔

ماریہ خان کاکام "ملٹی فکشنل ہائبرڈ نینومیٹریل پر مبنی ہائیو سنسر کے لئے صحت کی کارکردگی پر مبنی ہوگا جبکہ آبگینہ شبیر جو پروفیسر ایس ایس اسلام کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان کا کام "لی آنن بیٹریوں کے لئے اعلیٰ کارکردگی پر مشتمل انوڈ میٹریل کی تیاری " پر ہے۔ دونوں اسکالرز کے تحقیق سے صرف سائنس ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انہیں بھی جو اس میدان میں برسوں سے کام کر رہے ہیں ، سوچنے سمجھنے کے لئے ایک نیا زاویہ میسر آئے گا ۔ اس کامیابی کے لئے پروفیسر اے کیو انصاری ، ان کی ٹیم اور سی این این ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دیگر عملے کے ممبروں نے سخت محنت کی۔

وزیر اعظم کی ریسرچ فیلو (پی ایم آر ایف) اسکیم کو ملک کے مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ پرکشش فیلو شپ کے ساتھ یہ اسکیم تحقیق سے وابستہ افراد نہ صرف ہمت افزائی کرتی ہے بلکہ ان کے خیالات کی قدر بھی کرتی ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں ۔ اس اسکیم کا اعلان 2018-19 کے بجٹ میں کیا گیا تھا۔

احمد عظیم

پی آر او-میڈیا کوآرڈینیٹر

